

KHALID PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE HAROONABAD

SPEECH CLASS ONE



ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا
محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو!
السلام علیکم!

مجھے آج جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اسکا عنوان ہے " قائد اعظم محمد علی جناح "
عزیز ساتھیو!

قائد اعظم 25 دسمبر 1876ء کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم
کراچی ہی سے حاصل کی۔ اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور پانچ سال بعد واپس آکر مسلمانوں کے لیے
الگ وطن حاصل کیا آپ نے 11 ستمبر 1948ء کو وفات پائی۔ آپکا مزار کراچی میں ہے۔

یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران

اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان

والسلام شکر یہ

(Speech Class Two)

یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران
اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان

محترم پرنسپل صاحب اور میرے عزیز ساتھیو!

السلام علیکم!

آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے " قائد اعظم محمد علی جناح "
پیارے ساتھیو!

قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876ء کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی پھر
اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ آپ نے جب پاکستان کے لیے جدوجہد کی تو اپنے اور غیر آپ کے دشمن ہو
گئے۔ اس کے باوجود آپ پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلسل محنت کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور
آپ 11 ستمبر 1948ء کو وفات پا گئے

آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

والسلام شکر یہ

(Speech Class Three)

ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ہے ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح ہے

محترم پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو!

السلام علیکم!

میری آج کی تقریر کا عنوان ہے " قائد اعظم محمد علی جناح "

عزیز ساتھیو!

پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876ء کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی
سے اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ وطن واپس آکر وکالت شروع کر دی آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز
ستمبر 1905ء میں کیا۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور ذہانت کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط
سے آزادی ملی۔

یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران

اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان

والسلام شکر یہ